



## سوال

(722) جس بات پر اللہ پر وہ ڈالے بندہ بھی اسے چھپائے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک مسلمان بہن، دین اسلام کی پابند ہے، اس نے اللہ سے توبہ کی ہے، تقریباً آدھا قرآن یاد ہے، علماء کے دروس میں بھی حاضر ہوتی ہے، سر ڈھلنے رہتی ہے، اور ان شاء اللہ عنقریب نقاب بھی لینا شروع کر دے گی۔ وہ جاہلیت کے دنوں میں بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی اور چار حمل بھی ضائع کرایا۔ اب شادی کے موقع پر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا وہ اپنے شوہر کو اپنے متعلق سب کچھ بتادے تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے۔ یا خاموش رہے جیسے کہ بعض نے اسے کہا ہے کہ جس بات پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، بندہ اسے ظاہر نہ کرے۔ اور دوسرے وہ جو کر چکی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس بہن کو چاہئے کہ اللہ سے توبہ کرے خالص توبہ، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کے کام کرنے میں اور زیادہ کوشش کرے۔ زنا، اللہ محفوظ رکھے: سب جرائم سے بڑھ کر غلیظ جرم ہے اور اس کی طرف وہی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں جو نفسیاتی طور پر ضعیف اور کمزور ہوں، اس پر اللہ کا عقاب بڑا سخت ہے۔ جبکہ یہ جذبات فوری ہوتے ہیں جو لمحات میں ختم ہو جاتے ہیں۔

امام احمد اور ابن ماجہ روایت لائے ہیں، جناب ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسْتَقْبُوا وَلَن تَخْضُوا وَاعْلُوا، اِنْ وَخِزْتُمْ اَعْمَالُكُمْ الصَّلَاةَ، وَلَا تَجَافُوا عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا مُسَلِّمًا

”سیدھی راہ اختیار کرو، مگر تم کامل طور پر اس کا لحاظ نہیں رکھ سکو گے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نماز ہے، اور کوئی مسلمان ہی اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے۔“ (سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و سننہا، باب المحافظة علی الوضوء، حدیث: 277 و مسند احمد بن حنبل: 276/5، حدیث: 22432 و المستدرک للحاکم: 220/1 حدیث: 447، 448، 449، 450۔)

اس حدیث میں ارشاد ہے کہ بندہ نماز کی خوب پابندی کرے۔۔ جناب ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزارہ کرتے تھے اور آپ کے لیے وضو کے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ ”نانگ لو، کیا چاہتے ہو؟“ انہوں نے کہا: میں آپ سے جنت میں آپ کی وفاقت چاہتا ہوں! ”آپ نے فرمایا: ”کیا کوئی اور؟“ انہوں نے کہا: ”نہیں میرا یہی سوال ہے۔“ آپ فرمایا:

